

کوچ



خود پر قابو قابل



قابل II



خود پر قابو بمقابلہ بہکاوے

یسوع کو بہکایا جاتا ہے

متی 11-4:1

یاد رکھنے والی پہلی آیت:

1 گرتھیوں کے نام خط 13:10

”تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔“

اکھاڑے میں



بہکاوے کے خلاف مزاحمت کریں اور اگر ممکن ہو تو یسوع کی طرح صحیفے کا استعمال کریں۔ اپنی خواہشات پر قابو پائیں، اور اپنے آپ کو بہکاوے میں آجانے سے بچائیں۔

کوچ کے پرچے "روح کے پہل سے بہادروں" کو خوش آمدید! آپ

کا مقصد اپنے طالب علموں کو بہادر بننے میں مدد دینا ہے۔ ایسا ک
رنے کے لئے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہ

ر روز کے عمل میں روح کا پہل ڈالیں۔

بہت سے اتوار اسکول کے پروگرام چرچ میں ہوتے ہیں اور اس می
ں ہفتے کے دوران گھر کے کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا آپ
کے طالب

علم یہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں گناہوں کو "ناک آؤٹ" نہیں ک
رسکتے۔ انہیں لازمی حقیقت میں "رنگ میں" آنا ہوگا اور اصل گناہ
سے لڑن

ا ہوگا جس کا وہ ہفتے کے دوران مقابلہ کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ
کوئی ان نظر نہ رکھے تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ مہربانی فرما کر
"ان کے

لفظوں پر بھروسہ نہ کریں" بلکہ جب طالب علم کہیں کہ انہوں
نے اپنا اسائنمنٹ کرلیا ہے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ اس پروگرام
سے لاپرواہ ہوجائیں گے تو اس کا مطلب ہو گا کہ آپ اپنے طالب عل
م کو جھوٹ بولنا سیکھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تصور کریں کہ اگ
ر آپ واقعی اپنے طالب علموں کے کوچ ہوسکتے ہیں اور راہ پر ہ
یں تو وہ اپنا گھر کا کام کرتے رہیں تو آپ ان کی زندگیوں میں حقیق
ی

تبدیلی دیکھ لیں گے۔ صرف 1 سال میں، آپ ان کی زندگی بدل سک
تے ہیں! آپ کے طالب علم روح کا پہل یاد نہیں کریں گے لیکن حقی
قت

میں انہوں نے اس میں رہنا سیکھنا ہوگا۔

آپ کی ذمہ داریاں:

- اپنے بچوں کے گروہ کے کوچ بنیں
- ہر ہفتے کلاس سے 5 منٹ پہلے اور بعد میں طالب علموں سے ملی
ں اسائنمنٹ پر بحث کری

ں اور بہادر بننے کے لئے ان کی حوصلہ افزائیں کریں۔

- ہفتے وار طالب علموں کو ان کی اسائنمنٹ کی یاد دہانی کے لئے
فون کریں یا پیغام بھیجیں
- (منگل تجویز کیا گیا ہے)

- ہفتے میں دوسری بار طالب علم کو اپنی کٹے ہوئے اسائنمنٹ کی
رپورٹ لینے کے لئے ف

ون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (جمعہ تجویز کیا گیا ہے)

- چھوٹے گروہ میں بچوں نے جو اسائنمنٹ کی ہیں ان کو دیکھتے ر
ہیں اور اس کی ہفتہ وار رپو
رٹ بیڈ کوچ کو بھیجیں۔

انعامات:

کوچ ہونے کی حیثیت سے ایک بہت اہم بات کہ اپنے طالب علموں
کو احساس دلانے میں مدد دیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اس کا مط
ب ی

ہ ہے کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ انہیں تفصیل سے بتائیں کہ
آپ ان کا رویہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں اس رویے پر انع
ام دیں۔

چھوٹے ہفتے وار انعامات:

- گلے لگانا
- اوپر ہاتھ کر کے ملانا (ہائی فائیو)
- ان کی قمیضوں پر اسٹیکر لگانا
- ہاتھ پر مہر لگانا
- تھوڑی مٹھائی

مہینے کے آخر میں بڑے انعامات:

- تقریب انعامات میں بچوں کو سونے، چاندی اور کانسی کے میڈل
دئیے جائیں گے۔ (کانسی کا
- میڈل 3 ہفتوں کی اسائنمنٹ پورا کرنے والوں کو، چاندی کا 4 ہفتوں
والوں کو اور سونے کا 5 ہفتوں والوں
- کو۔ یا دوسری صورت میں، آپ ہر ہفتے کانسی کا 2 پنچ کے لئے، چا
ندی کا 3 پنچ کے لئے اور سونے کا
- میڈل 4 پنچ کے لئے دے سکتے ہیں۔)
- اپنے گھر پر تقریب
- اسناد
- بڑے چرچ میں بالغوں کے سامنے کچھ بڑا دیں
- ٹرافیوں

ہمارا خداوند آپ کو متاثر کرے جیسے آپ نے روح کے پہل میں اپن
ے طالب علموں کو سیکھانے کا چیلنی
ج قبول کیا ہے۔



قابل 12



خود پر کنٹرول بمقابلہ جھوٹ

يعقوب نے عسيو کی برکت چرا لی

پیدائش: 36-1:27

”جھوٹی زبان اُن کا کینہ رکھتی ہے جن کو اُس نے
گھایل کیا ہے اور چاٹلوس مُنہ تباہی کرتا ہے۔“

یاد رکھنے والی پہلی آیت:

امثال 28:26

اکھاڑے میں

ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ بہت تھوڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اس جھوٹ کو یاد کریں جو آپ نے اس سال بولا۔ اس شخص کے پاس جائیں، اسے سچ بتائیں اور یہ بھی کہ آپ جھوٹ بولنے پر اس سے معذرت خواہ ہیں۔



قابل 13



خود پر قابو بمقابلہ کاہلی (سستی)

ذہین اور بیوقوف معمار

متی 24:7-27


”پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں
کرتا اُس کے لئے یہ گناہ ہے۔“

یاد رکھنے والی پہلی آیت:

يعقوب کا خط 17:4

اکھاڑے میں

اس ہفتے اپنی سستی کے خلاف لڑیں اور کرنے کے لیے کسی ایسے کام کا انتخاب کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اسے مکمل کرنے کو یقینی بنائیں اور اپنی گواہی کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں۔



طالب



2

1

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار



آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا



4

3

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار



آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا



6

5

قابل

قابل

13 12 11 10

13 12 11 10

وار کرنا

وار کرنا

کانٹا

کانٹا

آر پار

آر پار

اوپر کی طرف کہن

اوپر کی طرف کہن

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

ی کو موڑ کر پنچ مارنا

